لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

قَصِيْدَةُ الْحُسْنٰى

فی

اَسْمَاءِ النَّبِیِّ الْعُظْمٰی

حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی

طیب اللہ آثارہ واعلیٰ درجاتہ فی دار السلام

إدارۂ تصنیف وأدب

القلم فاؤنڈیشن، 13 ڈی، بلاک بی سمن آباد، لاہور

پاکستان

حقوق طبع بنام ادارہ محفوظ ہیں

قصیدۂ حسنیٰ پڑھنے کے فوائد بیشمار ہیں۔ اسماءِ نبویہؐ کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔ چند اہم فوائد یہ ہیں۔

(۱) ہر قسم کی بیماری سے باذن اللہ شفاء (۲) مقدمات میں فتح (۳) دشمنوں کے شر سے حفاظت (۴) ملازمت میں ترقی (۵) افسرانِ بالا مسخر (۶) ماتحت عملہ تابع (۷) تجارت میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوکر بڑا نفع ہوگا (۸) میاں بیوی میں محبت ہوگی، بیوی پڑھے تو خاوند تابع ہوگا اور خاوند پڑھے تو بیوی فرمانبردار ہوگی (۹) سفر بخیر ختم ہوکر بخیر واپسی ہوگی (۱۰) طالب علم کا ذہن تیز و حافظہ بڑھے گا (۱۱) نیک اعمال کی توفیق ملے گی (۱۲) دلوں کی تسخیر کیلئے بہت مفید ہوگا (۱۳) غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی (۱۴) رزق میں فراخی اور جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چالو ہوگا (۱۵) جنات و سحر کا اثر دور ہوگا (۱۶) بے اولاد و عقیمہ عورت پڑھے تو اللہ تعالی اولاد نصیب فرمائیں گے (۱۷) گمشدہ چیز مل جائیگی (۱۸) گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آجائیگا (۱۹) جس کے بچے پیدا ہوکر مر جاتے ہیں تو وہ ان شاء اللہ زندہ رہیں گے (۲۰) امتحان میں کامیابی ہوگی (۲۱) دلوں کا وسوسہ اور خوف و بے اطمینانی دور ہوجائیگی (۲۲) استحضارِ قلب سے بار بار پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے اجازت
لینے سے ان شاء اللہ تعالی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔

عامل بننے کے بغیر بھی یہ فوائد حاصل ہونگے ان شاء اللہ تعالی۔ لیکن عامل بننے سے تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قصیدۂ حسنیٰ کے عامل بننے کے طریقے چار ہیں۔ عامل بن جانے کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھے۔ قصیدۂ حسنیٰ کے عامل بننے کے چار طریقے (اوّل) ۴۱ دن تک ہر روز ۳ دفعہ پڑھے (دوم) ۴۱ دن تک روزانہ ۷ دفعہ پڑھے (سوم) کسی ماہ (ربیع الاوّل ہو تو بہتر ہے) تین دن اعتکاف کر کے روزہ رکھے ایامِ اعتکاف میں روزانہ ۱۵ مرتبہ پڑھے (چہارم) اول ۱۲۵ مرتبہ درود شریف پڑھ کر قصیدہ شروع کرے پھر آخر میں بھی ۱۲۵ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ۴۱ دن تک روزانہ ایک مرتبہ اسی طریقہ سے پڑھے۔

پڑھنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ (مصنف) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت کی اولاد و اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّیًا وَّمُسَلِّمًا، اَمَّا بَعۡد۔ ۱۹۶۴ء کو بندہ کا قصیدہ طوبیٰ (منظوم اسماء اللہ الحسنیٰ) شائع ہوا تھا۔ عوام وخواص، مَردوں اور عورتوں میں، عرب وعجم میں قصیدہ طوبیٰ کو نہایت قبولیت حاصل ہوئی۔ حرمین شریفین میں متعدد علماء و اولیاء اللہ و عوام اسے بطورِ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ قضائے حاجات کیلئے ہزارہا انسانوں نے تیر بہ ہدف پایا، فَالۡحَمۡدُ لِلّٰہ۔

متعدد احباب نے قصیدۂ طوبیٰ کے طرز پر اسماء النبی ﷺ کو عربی میں منظوم کرنے کا بار بار ذکر کیا اور تاکید کی۔ ان کے اصرار کے علاوہ بندہ کو خود بھی اس کا بڑا اشتیاق تھا۔ بعد الاستخارہ توکّل علیٰ توفیق اللہ کرتے ہوئے انہیں منظوم کیا، جو ناظرین وقارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ ۱۳۹۴ھ کو جب بندہ سفرِ حج پر گیا تو بقصدِ تبرک خانۂ کعبہ کے سامنے اور آں حضرت ﷺ کی قبر مبارک کے بالمواجہہ اسماء النبی ﷺ کا یہ قصیدہ بار بار پڑھا۔ پڑھتے وقت جو کیفیتِ قلبی وارد ہوتی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔

فائدہ۔ آیتِ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوا الۡحُسۡنٰی وَزِیَادَۃٌ سے بطور تبرک وتفاؤل اخذ کرتے ہوئے اس مبارک منظوم کا نام "الحسنیٰ" رکھتا ہوں۔

فائدہ۔ قصیدۃ الحسنیٰ میں ۵۲۱ نام جمع ہیں جو کتبِ معتبرہ مثلاً مواہب، شرح زرقانی، قولِ بدیع وغیرہ سے بڑی احتیاط سے اخذ کیے گئے ہیں۔ بندہ کے علمِ ناقص میں دعائیہ صورت میں قصیدۂ حسنیٰ دنیائے اسلام میں بے نظیر وپہلی کوشش ہے۔ بعض کتابوں میں دیکھا کہ بعض اولیاء کرام کو مدۃُ العمر یہ خواہش رہی کہ کوئی شاعر اسماء النبی ﷺ عربی میں اسی طرح منظوم کرلے۔

فائدہ۔ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے بہتوں کی دعائیں قبول اور حاجتیں پوری ہونگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ قارئینِ قصیدۂ حسنیٰ یہ برکات خود محسوس کریں گے۔ میں نے خود کئی مشکلات کیلئے نہایت مفید ومؤثر پایا۔

فائدہ۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ شرکاء بدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسماء جو بخاری میں ہیں پڑھنے کے بعد قبولیتِ دعا مجرب ہے۔ نیز حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے شرح الفیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے سات فقہاء جو اولیاء اللہ تھے کے نام بڑے مبارک ہیں، کاغذ پر لکھ کر گندم وغیرہ کھانے پینے کی چیزوں میں رکھنے سے ان میں بڑی برکت ہوگی۔ نیز ہر آفتِ ظاہریہ سے محفوظ ہونگی، اپنے پاس رکھے تو ہر آفت سے امان ہوگی، دردِ سر زائل ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سات نام یہ ہیں (۱) سعید بن المسیّب (۲) عُروۃ بن زبیر (۳) قاسم بن محمد (۴) ابوبکر بن عبدالرحمن (۵) خارجۃ بن زید (۶) عبیداللہ بن عبداللہ (۷) سلیمان بن یسار۔ نیز اسماءِ اصحابِ کہف کے فائدے تو مشہور ہیں۔ محدثین و اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے تجربہ کے پیشِ نظر اسماءِ اصحابِ کہف کے چند فائدے یہ ہیں۔ حصولِ ہر مطلوب، بھاگے ہوئے کی واپسی، آگ لگی ہوئی ہو تو اس میں ڈالنے سے وہ بجھ جائیگی یا کم ہو جائیگی، بچے کا رونا، کھیت کی آبادی و حفاظت، بخار، دردِ سر، غنا، ترقی، دردِ زہ کی آسانی، حفاظتِ مال وغیرہ وغیرہ مقاصد میں نہایت مفید ہیں۔ پس جب صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعض اولیاء اللہ کے ناموں کی اتنی برکات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہیں تو سید الاوّلین والآخرین رحمۃ للعالمین کے اسماء کی برکات بے شک حساب سے باہر ہوں گی اور قضائے حاجات و قبولیتِ دعا کیلئے اکسیر ہوں گے۔

فائدہ۔ جس کو پڑھنا ہو وہ اوّل و آخر میں تین تین دفعہ درود شریف پڑھے۔ قصیدہ پڑھتے وقت تمام توجہ آں حضرت ﷺ کی طرف کرے اور یہ خیال و تصور کرے کہ قاری مدینہ منورہ میں گنبدِ خضراء اور قبر مبارک کے سامنے آں حضرت ﷺ کو یہ قصیدۂ مدحیہ سنا رہا ہے۔ اس استحضارِ تصوّری سے ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا، دل پر کیف و سرور طاری ہوگا۔

محمد موسیٰ روحانی بازی
استاذ جامعہ اشرفیہ، لاہور
پاکستان
۱۳۹۷ھ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَمِدْتُّ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَا

میں حمد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے

عَلَى النَّعْمَاءِ حَمْدَ الْمُخْلِصِيْنَا

اس کی نعمتوں پر اخلاص والوں کی حمد

أُصَلِّيْ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ تَتْرٰى

درود بھیجتا ہوں حمدِ خدا کے بعد مسلسل

عَلَى الْهَادِيْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِيْنَا

ہدایت کرنے والے نبی پر جو تمام پیغمبروں کے نبی ہیں

فَيَا رَبِّ احْمِنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

اے اللہ مجھے بچا اپنے نفس کے شر سے

وَ شَيْطَانٍ وَّ مَنْ كَانُوْا خُؤُوْنَا

شیطان اور ان دشمنوں کے شر سے جو ہیں خیانت کرنے والے

وَ مِنۡ مَّرَضٍ وَّ آفَاتٍ وَّ غَمٍّ

اور بچا تمام امراض ، آفات اور غموں سے

وَ مِنۡ فِتَنٍ دَهَتۡ جِسۡمًا وَّ دِيۡنًا

اور اُن فتنوں سے جو عیب دار کریں جسم اور دین کو

بِجَاهِ الۡمُصۡطَفَى الۡأَسۡنٰى[١] مَقَامًا

یہ دعا قبول ہو بحرمتِ نبی ، برگزیدہ ، بلند درجہ والے

حَبِيۡبِيۡ رَحۡمَةٍ[٢] لِّلۡعَالَمِيۡنَا

میرے حبیب جو رحمت ہیں تمام عالم کے لئے

مُحَمَّدِ[٣] نِ النَّقِيِّ[٤] الۡقَلۡبِ حَيًّا

خوب ستایش کیے ہوئے ، پاکیزہ دل والے حیات میں

وَ مَيۡتًا فَهُوَ أَزۡكٰى[٥] الطَّاهِرِيۡنَا

اور بعد الموت ، پس آپ تمام پاکیزوں سے زیادہ پاکیزہ خصال ہیں

هُوَ الۡمُدَّثِّرُ[٦] الۡمُذۡكِيُّ[٧] خُلۡقًا

آپ لحاف اوڑھنے والے ہیں ، ستھرے اخلاق والے

هُوَ الۡمُزَّمِّلُ[٨] الۡمُقۡرِيُّ[٩] سِنِيۡنَا

آپ کپڑے میں لپٹنے والے ہیں ، قرآن و دین پڑھانے والے کئی سال تک

١٠ رَفِيقٌ ١١ مِّنَّةُ اللهِ ١٢ حَرِيصٌ

خدا کے رفیق ، احسانِ خدا ، بہت چاہنے والے

عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْتَسْلِمُونَا

تمہارے ایمان کو اے مسلمانو !

١٣ فَصِيحٌ ١٤ دَهْتَمٌ ١٥ وَرِعٌ ١٦ عَفِيفٌ

فصاحت والے ، نرم خُو ، پرہیز گار ، پاک دامن

وَ ١٧ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ أَجْمَعِينَا

اور سردار ہیں کُل اولادِ آدم علیہ السلام کے

١٨ جَوَادٌ ١٩ صَاحِبُ الدَّرَجَاتِ ٢٠ بَرٌّ

سخی ، بلند درجات والے ، بڑے نیک

٢١ دَلِيلُ الطَّالِبِينَ الْحَائِرِينَا

رہ نما ہیں حق کی جستجو کرنے میں حیران لوگوں کے لئے

٢٢ عَطُوفٌ ٢٣ سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ ٢٤ رَاجٍ

مہربان ، انس و جنّ کے آقا ، امیدوار

وَ ٢٥ رَحْبُ الْكَفِّ لِلْمُسْتَرْفِدِينَا

اور کشادہ ہاتھ والے مانگنے والوں کے لئے

۲۶
نَبِيُّ الرَّاحَةِ الدُّوْمِي فَطُوبٰى

دائمی راحت دینے والے نبی ہیں کتنے مبارک ہیں

لِمَنْ لَبَّوْا وَ تَابُوْا مُصْلِحِيْنَا

وہ لوگ جنھوں نے لبیک کہا اور توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی

۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
مُقِيْلٌ مَّغْنَمٌ عَبْدٌ صَبُوْرٌ

معاف کنندہ ، غنیمت ، بندۂ خدا ، بہت صبر کرنے والے

وَ إِنَّ اللهَ عِنْدَ الصَّابِرِيْنَا

اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے پاس ہیں

۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴
جَلِيْلٌ جَهْضَمٌ ذُوالسَّيْفِ نَدْبٌ

عظمت والے ، معتدل سر ، گول پیشانی والے ، تلوار والے ، عقل مند

۳۵ ۳۶
ضِيَاءٌ دَامِغُ الْمُسْتَكْلِبِيْنَا

روشنی ، دفع کرنے والے شریروں کو

۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰
وَ كَافٍ مُّكْتَفٍ قُطْبٌ هُمَامٌ

کافی ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ، مدارِ دین ، بلند ہمت سردار

۴۱ ۴۲
وَ مَكْفِيٌّ وَّلِيُّ الصَّالِحِيْنَا

کفایت کیا ہوا ، دوست ہیں نیکو کاروں کے

٤٣ مُهَيمِنُنَا وَ ٤٤ مُصلِحُنَا ٤٥ شَفِيقٌ

ہمارے امین و امن دہندہ اور اصلاح کرنے والے نبی ، شفقت والے

٤٦ مُقِيمُ السُّنَّةِ الْغَرَّاءِ فِينَا

سنتِ بیضاء کے طریقے ہمارے اندر قائم کرنے والے

وَ ٤٧ خَاتِمُ أَنْبِيَاءِ اللهِ طُرًّا

اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سلسلۂ نبوت کو ختم کرنے والے

وَ ٤٨ خَاتَمُهُمْ فَتَبَّ الْمُنْكِرُونَا

اور مہر ختم نبوت ، پس تباہ ہوں منکرینِ ختم نبوت

فَلَا يَرْجُو النُّبُوَّةَ بَعْدَ هٰذَا

اور توقع نہیں رکھتا نئی نبوت کی اس کے بعد

سِوٰى مَنْ كَانَ دَجَّالًا لَّعِينَا

مگر وہ شخص جو معلون دجّال ہو

فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ

پس خدا کی لعنت ہو ریت کے اُن گنت ذرّوں کے برابر

عَلَى الْأَتْبَاعِ وَ الْمُتَنَبِّئِينَا

جھوٹے نبی کے متبعین پر اور جھوٹے مدّعیانِ نبوت پر

كَفِيلٌ ٤٩ صَاحِبُ ٥٠ النَّعْلَيْنِ لَيْثٌ ٥١

کفالت والے ، مبارک جوتوں والے ، شیر و بہادر

وَ صَاحِبُ ٥٢ مِنْبَرٍ وَّالٍ ٥٣ يَّلِينَا

مبارک منبر والے حاکم ہیں جو ہماری سرپرستی فرماتے ہیں

وَ مَمْنُوحٌ ٥٤ وَّ مَوْعِظَةٌ ٥٥ أَبُوالْقَا ٥٦

کمالات دیے ہوئے ، باعثِ عزت ، قاسم کے باپ

سِمِ الْعَالِيْ ٥٧ أَبٌ ٥٨ لِّلْمُؤْمِنِينَا

بلند ، تمام مومنوں کے روحانی باپ ہیں

رَشِيدٌ ٥٩ صَاحِبُ ٦٠ الْاٰيَاتِ يَهْدِيْ

رُشد والے ، معجزات والے جو راستہ بتائے

مَنِ اسْتَهْدَوْا فُرَادٰى أَوْ ثُبِينَا

ہدایت مانگنے والوں کو تنہا تنہا اور گروہ در گروہ

وَ آمِرُنَا ٦١ وَ نَاهِينَا ٦٢ وَ قَاضٍ ٦٣

ہمیں امر و نہی کرنے والے اور فیصلے کرنے والے

طَبِيبٌ ٦٤ لَحْظُهٗ يَشْفِي الْحَزِينَا

دلوں کے طبیب ، کیونکہ آپ کی نگاہ غمگین کیلئے باعثِ تسکین ہے

۶۵ قَسِيمٌ ۶۶ مُؤمِنٌ ۶۷ مُنجٍ ۶۸ وَسِيمٌ

خوبصورت ، بڑے ایمان والے ، نجات دہندہ ، حُسن والے

۶۹ جَسِيمٌ فَاقَ كُلَّ الْفَائِقِينَا

معزّز بدن والے ، فائق ہیں تمام معززین پر

۷۰ خَلِيلُ اللهِ ۷۱ مَحْمُودٌ ۷۲ شِهَابٌ

خاص دوستِ خدا ، ستائش کیے ہوئے ، شعلۂ حق

۷۳ شَكُورٌ ۷۴ شَاكِرٌ لِلْمُحْسِنِينَا

زیادہ شکر کنندہ ، شکر گزار ہیں احسان کرنے والوں کے

۷۵ خَبِيرٌ ۷۶ حَامِلٌ لِلِّوَاءِ حَمْدٍ

خبردار ، حمد کا جھنڈا اٹھانے والے

وَ ۷۷ حَمَّادٌ ۷۸ حَمِيدُ الْعَارِفِينَا

اور زیادہ حمد کرنے والے ، ستائش کیے ہوئے ہیں تمام بزرگوں کے

وَ ۷۹ حَمْدٌ ۸۰ أَحْمَدُ الْمُخْتَصُّ حَمْدًا

اور عین ستائش ، سب سے زیادہ ثنا خوانِ خدا ، حمد آپؐ کی خصوصیت ہے

فَإِنَّ الْحَمْدَ كَانَ لَهُ قَرِينَا

کیونکہ حمد آپؐ سے (آپؐ کی امت و دین سے) وابستہ ہے

٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤

سَمِيٌّ صَيِّنٌ نَبَأٌ وَّ مَرْءٌ

بلند ، پاک نفس والے ، عظیم خبر ، مرد

٨٥

عَظِيمٌ عِصْمَةُ الْمُسْتَعْصِمِينَا

عظیم الشان ، پناہ ہیں حفاظت طلب کنندگان کیلئے

٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩

وَ أَنْوَرُ بَارِعٌ فَهِمٌ بَدِيعٌ

خوب نورانی ، فائق ، بڑے سمجھدار ، بڑے حُسن والے

٩٠ ٩١

وَ مَرْحَمَةٌ إِمَامُ الْعَامِلِينَا

اور سببِ رحمت ، نیک عمل کرنے والوں کے پیشوا

٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥

وَ دَانٍ خَيِّرٌ زَلِفٌ رَجِيحٌ

اور خدا کے قریب ، فضل والے ، سبقت والے ، کمال میں راجح

٩٦ ٩٧

وَ أَوَّاهٌ وَّ بَدْءُ الْمُخْبِتِينَا

خدا کے سامنے زاری کنندہ ، سردار و مبدأ ہیں عاجزی کرنے والوں کیلئے

٩٨ ٩٩ ١٠٠

كَلِيمُ اللهِ إِكْلِيلٌ مَبَرٌّ

اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ، تاجِ انبیاء ، عین نیکی کرنا

١٠١

وَ فَيْئَتُنَا إِذَا نَحْنُ ابْتُلِينَا

ور ہمارے مرجع جب ہم مبتلائے مصائب ہوتے ہیں

وَ ذُوشَرَفٍ [١٠٢] وَّ ذُومَجْدٍ [١٠٣] كَرِيمٌ [١٠٤]

صاحبِ شرافت ، صاحبِ بزرگی ، بامروّت سخی

وَ أُذُنُ الْخَيْرِ [١٠٥] خَيْرُ السَّامِعِينَا

اچھی بات سننے والے ، سب سامعین سے بہتر ہیں

وَ ذُوتَاجٍ [١٠٦] وَّ ذُوخُلُقٍ [١٠٧] عَظِيمٍ

صاحبِ تاجِ رسالت ، بلند اخلاق والے

وَ يُرْوٰى كَانَ قُرْآنًا مُّبِينًا

روایت ہے کہ آپؐ کے اخلاق بعینہٖ قرآن مجید تھے

وَ صَادِقُنَا [١٠٨] وَ مَصْدُوقٌ [١٠٩] وَّ صِدْقٌ [١١٠]

ہم سب میں سچے ، سچے کیے ہوئے ، بعینہٖ سچ

وَ أَصْدَقُنَا [١١١] مُصَدِّقُ [١١٢] صَادِقِينَا

سب سے زیادہ سچے ، سب راست بازوں کی تصدیق کرنے والے

وَ إِنَّ اللّٰهَ أَرْسَلَهٗ سِرَاجًا [١١٣]

اور بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا چراغِ رُشد

وَ مِصْبَاحًا [١١٤] هُدًى [١١٥] نُورًا [١١٦] مَّكِينًا [١١٧]

قندیلِ نجات ، ہدایت ، نور ، جاہ و منزلت والے

وَ ١١٨ مِفْتَاحًا لِّجَنَّاتٍ ١١٩ إِمَامًا

اور جنّتوں کی چابی ، پیشوا

وَ ١٢٠ مَأْمُوْنًا وَّ ١٢١ مَدْعُوًّا ١٢٢ أَمِيْنًا

امانت دار ، بُلائے ہوئے اور معتمد

وَ ١٢٣ جِدًّا ١٢٤ خِيْرَةَ اللّٰهِ ١٢٥ مُضِيْئًا

خوش نصیب ، اللہ کے چنے ہوئے ، بذریعۂ علم روشن کرنے والے

وَ ١٢٦ رِضْوَانًا لَّهٗ ١٢٧ عَلَمًا ١٢٨ مَّتِيْنًا

اللہ تعالیٰ کی رضا ، علامتِ ہدایت ، قوی

هُوَ ١٢٩ الْمَدَنِيُّ ١٣٠ مُسْتَغْنٍ ١٣١ مُّبِيْحٌ

آپؐ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں ، غیر اللہ سے مستغنی ، جائز بتانے والے

١٣٢ مَدِيْنَةُ عِلْمِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَا

آپؐ کامل شہر ہیں خدا تعالیٰ کے علم کا

وَ ١٣٣ مُبْتَهِلٌ وَّ ١٣٤ مُثْبِتُ كُلِّ أَمْرٍ

اور عاجزی کرنے والے ، ہر شے کو قائم کرنے والے

عَلٰى مَأْوَاهُ خَيْرُ الْمُثْبِتِيْنَا

اپنی مناسب جگہ پر ، سب قائم کرنے والوں سے بہتر ہیں

۱۳۵ حِجَازِيٌّ ۱۳۶ مُزِيلُ كُلِّ شِرْكٍ

سرزمینِ حجاز والے ، دور کرنے والے شرک کو

بَدٰى فِي النَّاسِ أَحْقَابًا مِّئِينَا

جو ظاہر ہو چکا تھا لوگوں میں کئی صدیوں سے

۱۳۷ شَرِيفٌ ۱۳۸ هَاشِمِيٌّ ۱۳۹ يَثْرِبِيٌّ

شریف ، ہاشمی ، یثرب (نامِ مدینہ) والے

وَ ۱۴۰ قَرَشِيٌّ إِذَا مَا يَنْسِبُونَا

اور قریشی ہیں جب لوگ آپ کی نسبت بیان کریں

۱۴۱ صِرَاطُ اللّٰهِ ۱۴۲ قَائِدُ كُلِّ خَلْقٍ

اللہ تعالیٰ کی راہ ، تمام مخلوق کے رہبر

وَ لَمْ نَرَ مِثْلَهُ فِي الْقَائِدِينَا

اور ہم نے آپ جیسا قائد و رہبر نہیں دیکھا

وَ ۱۴۳ فَاضِلُ كُلِّ خَلْقِ اللّٰهِ ۱۴۴ شَافٍ

اور تمام مخلوق میں بڑے ، شفاء دہندہ

بِطِبِّ الْخَالِقِ الْمَرَضَ الدَّفِينَا

اللہ تعالیٰ کی روحانی طب کے ذریعہ پوشیدہ امراض سے

وَحِيدٌ ١٤٥ نَاصِبُ ١٤٦ الْأَحْكَامِ مَجْدُ ١٤٧
یگانہ خصال ، احکامِ دین قائم کرنے والے ، عین بلندی

وَ نَاشِرُهَا ١٤٨ وَ كَانَ بِذَا قَمِينَا
اور احکام پھیلانے والے اور آپؐ اس کے لائق تھے

وَ وَاضِعُ ١٤٩ إِصْرِهَا عَنَّا فَشُكْرًا
اور احکام کا بوجھ ہم سے کم کرنے والے ، پس ہم شکر گزار ہیں آپؐ کے

وَ وَاعِدُنَا ١٥٠ وَ سَيِّدُنَا ١٥١ يَقِينَا
اور ہمارے ساتھ وعدۂ نجات کرنے والے اور ہمارے سردار یقینا

وَ عَامِلُهَا ١٥٢ وَ صَادِعُهَا ١٥٣ امْتِثَالًا
اور ان پر عمل کنندہ اور کھول کر بیان کرنے والے حکمِ خدا بجا لاتے ہوئے

وَ كَانَ لِأَمْرِ خَالِقِهٖ ضَمِينَا ١٥٤
اور آپؐ اللہ کے ہر حکم بجا لانے کے کفیل تھے

وَ شَارِعُهَا ١٥٥ وَ صَاحِبُ ١٥٦ شَرْعِهٖ مَا
اور احکام بیان کرنے والے ، صاحبِ شریعت ، آپؐ کی

أَتَمَّ شَرِيعَةً وَّ أَتَمَّ دِينَا
شریعت کتنی اتم اور دین کتنا اکمل ہے

١٥٧ سَمِيعٌ ١٥٨ نَاطِقٌ بِالْحَقِّ ١٥٩ حَقٌّ

اَسرار سننے والے ، حق بولنے والے ، حق

وَ كَانَ الْحَقُّ فِطْرَتَهٗ وَطِينَا

اور حق آپؐ کی فطرت و خمیر تھا

١٦٠ حَنِيفٌ ١٦١ عَاقِبٌ ١٦٢ يَاسِينُ ١٦٣ أَمِنٌ

حق کی طرف مائل، انبیاء کے بعد آنے والے، اے انسانوں کے سردار، پیغامِ امن

١٦٤ نَجِيبٌ ذُوجُدُودٍ مُنْجِبِينَا

شریف ، اُن آباء و اجداد والے جو عالٰی نسب تھے

١٦٥ نَجِيُّ اللهِ ١٦٦ مَوْصُولٌ ١٦٧ شَهِيرٌ

اللہ کے ہمراز ، پہنچے ہوئے ، بڑی شہرت والے

١٦٨ هَدِيَّةُ رَبِّهٖ لِلْمُهْتَدِينَا

اللہ تعالٰی کا ہدیہ ہیں ہدایت پانے والوں کیلئے

١٦٩ حَكِيمٌ ١٧٠ حَاكِمٌ ١٧١ دَاعٍ ١٧٢ وَّمُحْيٍ

حکمت والے ، حکم کنندہ ، دعوت دہندہ ، زندہ کنندہ بذریعۂ تربیت

قُلُوبًا رَانَهَا ذَنْبٌ رُيُونَا

ایسے دلوں کو جن پر گناہ کا زنگ چڑھا ہوا تھا

وَ ۱۷۳ مَشۡهُوۡرٌ ۱۷۴ مُّصَارِعُ كُلِّ قِرۡنٍ

شہرت والے ، گرانے والے ہر مقابل کو

وَ أُعۡطِيَ مِثۡلَ قُوَّةِ أَرۡبَعِيۡنَا

اور آپؐ کو چالیس جنتی آدمیوں کی قوت دی گئی تھی

وَ ۱۷۵ سِلۡمٌ لِّلَّذِيۡنَ أَتَوۡهُ سِلۡمًا

اور صلح کرنے والے ان سے جو صلح کرنے آئیں

وَ ۱۷۶ حَرۡبٌ لِّلَّذِيۡنَ يُحَارِبُوۡنَا

اور جنگ کرنے والے ان سے جو طالبِ جنگ ہوں

وَ ۱۷۷ سَيۡفُ اللهِ سُلَّ عَلٰى عَدُوٍّ

اللہ تعالیٰ کی تلوار جو سُونتی ہوئی ہے دشمنوں پر

إِذَا دَارَتۡ رَحٰى حَرۡبٍ طَحُوۡنَا

جب بھی گھومنے لگے شدتِ جنگ کی پیسنے والی چکی

وَ ۱۷۸ مَتۡلُوٌّ عَلَيۡهِ الۡوَحۡيُ ۱۷۹ تَالٍ

آپؐ پر وحی کی تلاوت کی گئی ہے ، تلاوتِ قرآن کرنے والے

۱۸۰ وَصُوۡلٌ ۱۸۱ وَّاصِلٌ مَّا يَقۡطَعُوۡنَا

بلندی کو پہنچنے والے ، جوڑنے والے وہ رشتے جنہیں لوگ کاٹتے ہیں

١٨٢ ١٨٣ ١٨٤

وَ عِزُّ الْعُرُبِ مُقْتَصِدٌ بَلِيغٌ

عرب کی عزت ، درمیانی راہ چلنے والے ، بلاغت والے

وَ يَقْلَى اللّٰهُ قَوْمًا مُّسْرِفِينَا

اور اللہ مبغوض رکھتے ہیں اسراف کنندہ قوم کو

١٨٥ ١٨٦

وَ جَبَّارٌ عَلَى الْكُفَّارِ بُشْرٰى

کفار پر غالب ہیں ، بشارت ہیں

لِقَوْمٍ مُّسْلِمِيْنَ وَ مُخْلِصِيْنَا

مسلمانوں اور اخلاص والوں کے لئے

١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠

عَلِيٌّ كَامِلٌ قَمَرٌ مُّنِيرٌ

بلند ، کامل ، چاند ، روشن کرنے والے

١٩١

وَ قَيِّمُنَا وَ نَحْنُ بِهٖ هُدِيْنَا

ہمارے سرپرست سردار اور ہمیں آپ کی برکت سے ہدایت ملی ہے

١٩٢ ١٩٣ ١٩٤

أَجِيرٌ نَّاصِحٌ مُّسْتَغْفِرٌ مِّنْ

پناہ دینے والے ، خیرخواہ ، مغفرت مانگنے والے

غَفُورٍ لِّلْعُصَاةِ النَّادِمِيْنَا

اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب گنہ گاروں کے لئے

١٩٥ مُقَفٍّ ١٩٦ ضَارِعٌ ١٩٧ بَشَرٌ يَقِينًا

سب انبیاء کے بعد آنے والے ، تواضع والے بشر ہیں یقینا

وَ نُصَّ بِذَا فَتَبَّ الْجَاحِدُونَا

اور آپؐ کی بشریت نص سے ثابت ہے۔ پس تباہ ہوں آپؐ کی بشریت کے منکرین

١٩٨ شَفُوقٌ ١٩٩ نَابِذٌ ٢٠٠ عَدْلٌ ٢٠١ حَنَانٌ

شفقت والے ، پھینکنے والے ، عین عدل ، رحمت

وَ تَذْكِرَةٌ ٢٠٢ لِمَنْ يَتَذَكَّرُونَا

اور باعثِ نصیحت و یاد دہانی ہیں نصیحت ماننے والوں کے لئے

أَسَدُّ ٢٠٣ النَّاسِ أَوْفَاهُمْ ٢٠٤ ذِمَامًا

سب سے زیادہ سیدھی راہ پر اور زیادہ وفادار حرمت کے

وَ أَنْفُسُهُمْ ٢٠٥ إِمَامُ ٢٠٦ الْعَامِلِينَا

سب میں بہتر ، پیشوا ہیں عمل کنندگان کیلئے

أَشَدُّهُمْ ٢٠٧ وَ وَافٍ ٢٠٨ أَلْمَعِيٌّ ٢٠٩

سب میں زیادہ شدت و قوت والے ، وفا کنندہ ، تیز ذہن والے

وَ أَمْجَدُهُمْ ٢١٠ وَ أَوْسَطُ ٢١١ مَاجِدِينَا

سب سے زیادہ شریف ، سب شریفوں میں برگزیدہ

وَ أَتقَاهُم ۲۱۲ وَ أَخشَاهُم ۲۱۳ لِرَبٍّ

سب سے زیادہ متقی اور خدا سے ڈرنے والے

وَ أَعلَمُهُم ۲۱۴ بِمَا هُم يَجهَلُونَا

اور زیادہ جاننے والے ان امور کو جنہیں لوگ نہیں جانتے

وَ أَجوَدُهُم ۲۱۵ وَ أَحسَنُهُم ۲۱۶ نَجِيدٌ ۲۱۷

زیادہ سخی اور زیادہ اچھے ، بڑے شجاع

وَ أَرجَحُ ۲۱۸ كُلِّهِم عَقلاً رَّزِينَا

سب سے اعلیٰ ہیں بہ لحاظِ عقل سنجیدہ

وَ أَشجَعُهُم ۲۱۹ وَ أَصدَقُهُم ۲۲۰ حَدِيثَا

بڑے شجاع اور بڑے سچے باتوں میں

وَ أَرحَمُهُم ۲۲۱ وَ أَوَّلُ ۲۲۲ مُسلِمِينَا

اور زیادہ رحم کرنے والے اور پہلے مسلمان ہیں

وَ مَسعُودٌ ۲۲۳ وَّ مُختَارٌ ۲۲۴ مُّنِيبٌ ۲۲۵

نیک ، مختار ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے

فَوَاتِحُ ۲۲۶ نُورِ عِلمِ العَالِمِينَا

ظاہر کرنے والے ہیں علمِ علماء کی روشنی کو

٢٢٧ نَبِيٌّ لِلْمَلَاحِمِ ذُوالسَّرَايَا ٢٢٨

نبی ہیں جہاد و جنگ کے ، فوجوں والے

وَ قَتَّالٌ ٢٢٩ قَتُولُ ٢٣٠ الشَّاتِمِينَا

زیادہ قتل کنندہ ، خوب ہلاک کرنے والے ہیں اسلام کو گالی دینے والوں کو

مُلَقًّى ٢٣١ آيَ قُرْآنٍ كَرِيمٍ

آیاتِ قرآنِ کریم دیے ہوئے

وَ ذِكْرُ ٢٣٢ اللهِ خَيْرُ ٢٣٣ الْعَالَمِينَا

اور خدا کا ذکر سارے عالم سے بہتر ہے

وَ غَالِبُ ٢٣٤ كُلِّ ذِي جَيْشٍ عَظِيمٍ

اور غلبہ پانے والے ہر بڑی فوج والے پر

بِنَصْرِ اللهِ خَيْرِ النَّاصِرِينَا

خدا کی مدد سے ، خدا سب سے بہتر مدد کرنے والے ہیں

وَ صَاحِبُ ٢٣٥ كَوْثَرِ الْبَارِي فَيَسْقِي

اللہ تعالیٰ کی نہر کوثر والے ، تو آپ پلائیں گے

كِرَامًا مِّنْهُ نِعْمَ الْمُسْتَقُونَا

اس سے نیکو کاروں کو ، زہے نصیب ان پینے والوں کا

۲۳۶
وَ صَاحِبُ حَوْضِهِ الْمَوْرُوْدِ نَرْجُوْ
صاحبِ حوضِ کوثر جس پر مومنین آئیں گے۔ ہم بھی امیدوار ہیں

لَہٗ کَأْسًا دِھَاقًا وَّارِدِیْنَا
اس کے لبالب پیالے کے حوض پر آتے وقت

۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹
رَؤُوْفٌ سَیِّدُ الْکَوْنَیْنِ ھَادٍ
مہربانی کرنے والے ، دونوں جہان کے سردار ، راستہ دکھانے والے

۲۴۰ ۲۴۱
وَ مَھْدِيٌّ وَّ سَابِقُ سَابِقِیْنَا
ہدایت پانے والے اور سب سبقت کرنے والوں سے آگے ہیں

۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴
وَ تَنْزِیْلٌ وَّ ضَحَّاکٌ ضَحُوْکٌ
نازل کیے ہوئے ، ہنس مکھ ، بہت مسکرانے والے

۲۴۵
وَ مُصْلِحُ مَا عَسٰی أَنْ لَّا یَکُوْنَا
اصلاح کنندہ ان امور کے جو بظاہر ناممکن تھے

۲۴۶ ۲۴۷
عَلَامَۃُ قُدْرَۃِ الْبَارِيْ فَلَاحٌ
قدرت خدا کی واضح علامت ، (باعثِ) کامیابی

۲۴۸ ۲۴۹
مُقَدَّمُنَا شِفَاءُ الْمُفْلِحِیْنَا
ہم سب انسانوں سے آگے ، روحانی شفاء ہیں کامیابوں کے لئے

٢٥٠ مُيَسِّرُ شَرْعِهٖ عَمَلاً وَّ فَجْرُ ٢٥١

اپنی شریعت کو عملًا آسان کر دکھانے والے ، مانندِ صبح

وَ مُخْبِرُ ٢٥٢ حُكْمٍ مَا لَا يَعْلَمُوْنَا

وہ احکام بتانے والے جن سے لوگ ناواقف تھے

٢٥٣ حَلِيْمُ ٢٥٤ عُدَّةٍ وَّ مُبِيْدُ شَرٍّ

عقل و حوصلے والے ، ذخیرۂ آخرت اور دفع کرنے والے شر کو

وَ قَدْ مَلَأَ السُّهُوْلَةَ وَ الْحُزُوْنَا

جس نے پُر کر دی تھی (کُل زمین) نرم و سخت زمین

وَ رَهَّابُ ٢٥٥ وَّ رَجْلُ ٢٥٦ الشَّعْرِ زَاهٍ ٢٥٧

خدا سے بہت ڈرنے والے ، معتدل گھونگریالے بال والے ، بارونق چہرے والے

٢٥٨ سَدِيْدُ زَاجِرُ ٢٥٩ الْمُتَهَتِّكِيْنَا

مضبوط و مستقیم ، روکنے والے بے پرواہ لوگوں کو

وَ أَبْلَجُ ٢٦٠ أَبْيَضُ ٢٦١ الْأَعْضَاءِ حُسْنًا

کشادہ ابرو ، چمکدار خوبصورت اعضاء والے

٢٦٢ أَغَرُّ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ جَبِيْنَا

سب سے زیادہ نورانی چہرے والے ، حسین تر جبین والے

۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵
وَ حَمْطَايَا وَ حَمْيَاطَا أَحِيدُ
حرم کے محافظ، عورتوں کو حرام سے روکنے والے (رومی نام) آگ سے دور کرنے والے

۲۶۶ ۲۶۷
وَ قَدْمَايَا إِمَامُ الْمُتَّقِينَا
آگے آگے (رومی نام) متقیوں کے پیشوا

۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰
أَخُونَاخْ وَ أَزْكٰى آخِرَايَا
صحیح دین والے ، مبارک تر ، آخری نبی (انجیلی نام)

۲۷۱ ۲۷۲
أَسَدُّ وَ أُمَّةٌ لِلْمُقْتَدِينَا
مستقیم تر ، جامع رہنما اتباع کرنے والوں کے لیے

۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵
هُوَ الْحَكَمُ الْحُلَاحِلُ مَاذَمَاذَا [۱]
آپ حاکم ہیں ، بہادر آقا ، صاف و ستھرے (توراتی نام)

۲۷۶
وَ فِي الْعُقْبٰى خَطِيبُ الْوَافِدِينَا
اور بروز حشر دربارِ خدا میں وفدوں کے خطیب

۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹
وَ خَيْرٌ فَارِقٌ فَارَاقْلِيطَا [۲]
اور بہتر ، حق و باطل میں فرق کنندہ ، مخلص اور ہر حق کی روح (انجیلی نام)

۲۸۰ ۲۸۱
وَ تَلْقِيطٌ مُبَشِّرُ يَائِسِينَا
تلقیط (رومی نام) بشارت دینے والے نا امیدوں کو

۱و۲: اسمان عجمیان زیدت الألف في آخرهما للضرورة كما هو الشائع في الأعلام عند العجم. ۱۲

٢٨٢ مُهَابٌ ٢٨٣ مُرْتَجَانَا ٢٨٤ طَابَ طَابَا[له]

رعب والے ، ہماری امیدوں کا مرکز ، نفیس اور اچھے (توراتی نام)

٢٨٥ صَفُوحٌ ٢٨٦ صَفْوَةٌ فِي الطَّيِّبِينَا

درگزر کرنے والے ، برگزیدہ ہیں سب پاکیزوں میں

٢٨٧ رَضِيٌّ ٢٨٨ ذُوالْمَكَانَةِ ٢٨٩ مُرْتَضَانَا

رضا والے ، بڑے مرتبہ والے ، اللہ کے پسندیدہ ہمارے نبی

٢٩٠ سَخِيٌّ ٢٩١ ذُوعَطَايَا مَا ازْدُرِينَا

سخاوت والے ، ان عطیات والے جو کسی طرح حقیر نہیں سمجھے جاتے

٢٩٢ وَمِيزَانٌ ٢٩٣ وَبُرْهَانٌ ٢٩٤ بَيَانٌ

میزانِ حق ، دلیل ، بیانِ حق

٢٩٥ أَمَانُ اللهِ عِنْدَ الْخَائِفِينَا

خدا تعالیٰ کی طرف سے امان ڈرنے والوں کے نزدیک

٢٩٦ مُعَزِّرُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

سزا دینے والے ہر متکبر سرکش کو

٢٩٧ مُصَافِحُ كُلِّ مَنْ أَمْسٰى قَطِينَا

مصافحۂ محبت کرنے والے ہر اس شخص سے جو خادم بنا

له: اسم عجمي زيدت الألف في آخره للضرورة كما هو الشائع في الأعلام عند العجم. ١٢

وَ خَيْرُ[٢٩٨] الْأَنْبِيَاءِ الْمُقْتَفِيْ[٢٩٩] إِذْ

کُل انبیاء میں افضل ، سب کے آخر کیونکہ آپؐ

قَفَاهُمْ وَهُوَ خَيْرُ[٣٠٠] الْمُرْسَلِيْنَا

سب سے آخر میں پیدا ہوئے اور آپؐ تمام انبیاء سے افضل ہیں

مَلِيْءُ[٣٠١] دَعْوَةِ التَّوْحِيْدِ[٣٠٢] بَدْرٌ[٣٠٣]

صاحبِ غناء قلبی ، دعوتِ توحید والے ، (نبوت کے) بدر

وَ شَمْسٌ[٣٠٤] لَّا كَشَمْسِ الْمُبْصِرِيْنَا

اور آفتاب ہیں لیکن اعلیٰ ہیں اس آفتاب سے جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے

ظَفُوْرٌ[٣٠٥] صَاحِبُ[٣٠٦] الْمِعْرَاجِ لَيْلًا

بڑے کامیاب ، صاحبِ معراج ، رات کے وقت

عَلَا حَتّٰى تَخَلَّفَ طُوْرَ سِيْنَا

بلند ہوئے یہاں تک کہ کوہِ طورِ سینا کو پیچھے چھوڑ گئے

رَفِيْعُ[٣٠٧] الذِّكْرِ ذَاكِرُنَا[٣٠٨] وَ ذِكْرٌ[٣٠٩]

عظیم الشان ذکر والے ، امت کو یاد کرنے والے ، ذکر

وَ مَذْكُوْرٌ[٣١٠] مُّذَكِّرُ[٣١١] تَائِبِيْنَا

یاد کیے ہوئے ، نصیحت کرنے والے ہیں توبہ کنندگان کو

٣١٢ صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ، ٣١٣ مُّسْتَقِيمُ

سیدھی راہ ، درست عمل والے

وَ ٣١٤ ذَكَّارُ وَّ ٣١٥ خَيرُ الذَّاكِرِينَا

اور بہت یاد کرنے والے اور سب سے بہتر ذکر کرنے والے ہیں

٣١٦ مُفَضَّلُنَا وَ ٣١٧ فَضُلُ اللهِ ٣١٨ طٰـهٰ

ہم سب میں افضل ، خدا کا فضل اے انسانِ کامل

وَ ٣١٩ مِفضَالُ وَّ ٣٢٠ مُعلِينَا سُكُونَا

بڑے مہربان اور ہمیں بلند کرنے والے اطمینانِ قلب کے لحاظ سے

وَ ٣٢١ مُؤتَمَنُ ٣٢٢ مُّهَاجِرُ مَولِدٍ مَعُ

اور امانت والے ، مکہ سے ہجرت کرنے والے ساتھ

أَبِي بَكرٍ وَّ مَا أَعلَى خَدِينَا

ابوبکر کے صدیقؓ اور صدیقؓ بڑے اعلیٰ رفیق ہیں

وَ ٣٢٣ مَمنُوعُ وَّ ٣٢٤ مُنحَمِنَا وَ ٣٢٥ مُوحَى

حفاظت کیے ہوئے ، ستائش کیے ہوئے (سُریانی نام) بذریعۂ وحی

إِلَيهِ العِلمُ فَوقَ الأَعلَمِينَا

علم دیے گئے ہیں تمام اہلِ علم سے زیادہ

۳۲۶ زَكِيٌّ ۳۲۷ عَادِلٌ ۳۲۸ طَاسِيْنُ ۳۲۹ أَنْقٰى

پاکیزہ ، عدل والے ، طاسین ، سب سے زیادہ پاکیزہ

۳۳۰ مُعَلِّمُ حَاضِرِيْنَ وَ غَائِبِيْنَا

تعلیم دینے والے حاضرین و غائبین کو

۳۳۱ وَ دَارُ الْحِكْمَةِ الْعُلْيَا وَ مُؤْتًى ۳۳۲

بلند علم وحکمت کے مرکز ہیں ، انہیں عنایت کیے گئے

جَوَامِعَ كَلِمِهٖ عِقْدًا حَسِيْنَا

ہیں جامع کلمات جیسے خوب صورت ہار

۳۳۳ وَ مُطَّلِعٌ ۳۳۴ وَّ مُطْلِعُنَا ۳۳۵ نَجِيٌّ

اسرارِ وحی جاننے والے ، ہمیں اطلاع دینے والے ، اللہ کے ہم راز

۳۳۶ مُنَادِي النَّاسِ إِيَّاكُمْ وَ زُوْنَا

لوگوں کو یہ صدا دینے والے کہ دور رہو بتوں سے

۳۳۷ مُحَرِّمُ كُلِّ مَا يَأْتِيهِ وَحْيٌ

ہر اس شے کی حرمت بتانے والے جس کے بارے میں

بِهٖ لَمْ يَأْلُ جُهْدًا أَنْ يُّبِيْنَا

حرمت کی وحی آتی ، آپؐ نے ذرا کوتاہی نہیں کی حکم واضح کرنے میں

۳۳۸

مُحَلِّلُ مَا أُحِلَّ وَ مَا أَتَانَا

حلال کو حلال بتانے والے ، اور جو حکم آپؐ لے آئے ہیں

فَآمَنَّا بِہٖ وَ بِہٖ رَضِیْنَا

ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر راضی ہیں

أَحَادِیْثُ النَّبِیِّ مُحَرِّمَاتٌ

نبی علیہ السلام کی احادیث بھی حرام کرنے والی ہیں

کَمِثْلِ کِتَابِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَا

جس طرح قرآنِ خدا تعالیٰ سے حرمتِ اشیاء ثابت ہوتی ہے

وَ لَمْ یَنْطِقْ بِھِنَّ ھَوًی وَّ وَھْمًا

آپؐ نے احادیث پر نُطق خواہشِ نفس یا غلطی سے نہیں کیا

فَھُنَّ الْوَحْیُ لٰکِنْ مَا تُلِیْنَا

پس احادیث وحی ہی ہیں البتہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی

وَ قَدْ لُعِنَ الَّذِيْ قَدْ شَکَّ فِیْھَا

بے شک ملعون ہے وہ جو احادیث میں شک کرے

غَدًا یَدْرِيْ الَّذِيْ ظَنَّ الظُّنُوْنَا

بعد الموت جان لے گا وہ جو اس قسم کی بدگمانی کرے

وَ رَدُّ حَدِیْثِہٖ فِسْقٌ وَّ کُفْرٌ
اور احادیث کا انکار فسق وکفر ہے

وَ یَکْفُرُ مَنْ یَّظُنُّ بِہٖ مُجُوْنَا
اور کافر ہے وہ جو احادیث کے لغو ہونے کا خیال کرے

وَ صِنْدِیْدٌ ۳۳۹ قَثُوْمٌ ۳۴۰ کَانَ بُشْرٰی ۳۴۱
سردار و سخی ، جامع برکات ، تھے بشارت

لِعِیْسٰی وَھُوَ أَقْرَبُ مُبْشِرِیْنَا
عیسٰی علیہ السلام کی ، اور وہ سب بشارت دینے والوں میں قریب تر ہیں

مُعَقِّبُ ۳۴۲ أَنْبِیَاءِ اللّٰہِ طُرًّا
سب انبیاء علیہم السلام کے آخر میں پیدا ہونے والے

وَ مُعْلِنُ ۳۴۳ حُکْمِ رَبِّ الْمُعْلِنِیْنَا
اور اعلان کرنے والے ہیں اعلان کنندگان کے رب کے حکم کے

وَ عَبْدُ الْخَالِقِ ۳۴۴ اسْمًا فِيْ جِبَالٍ
اور آپؐ کا نام عبدالخالق ہے پہاڑوں میں

وَ أَوَّلُھُمْ ۳۴۵ وَ آخِرُ ۳۴۶ مُرْسَلِیْنَا
اور بہ لحاظِ روح و حقیقت سب انبیاء سے مقدم اور بظاہر تمام سے آخر ہیں

۳۴۷ نَبِيُّ الرَّحمَةِ الكُبرىٰ ۳۴۸ وَجِيهٌ

نبی ہیں بڑی رحمت کے ، جاہ و عزت والے

وَ ۳۴۹ مَرحُومٌ ۳۵۰ رَّحِيمُ الرَّاكِعِينَا

رحم کیے ہوئے ، رحم کرنے والے مسلمانوں پر

۳۵۱ شَهِيدٌ ۳۵۲ شَاهِدٌ مَّا كَانَ حَيًّا

گواہ ، گواہی دہندہ جب تک آپؐ زندہ تھے

وَ ۳۵۳ مَشهُودُ المَلَائِكِ سَائِحِينَا

حاضر کیے ہوئے آپؐ کے پاس وہ فرشتے جو گھومتے رہتے ہیں

۳۵۴ خَطِيبُ النَّاسِ ۳۵۵ مَبعُوثٌ ۳۵۶ لَّبِيبٌ

سب کے خطیب ، بھیجے ہوئے ، عقل مند

۳۵۷ خَطِيبُ الأَنبِيَاءِ السَّالِفِينَا

خطیب ہیں تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے

وَ كَانَ خِطَابُهُ نُورًا فَطُوبىٰ

اور آپؐ کا خطاب مثل نور تھا ، زہے نصیب

لِمَن سَمِعُوا لَهُ فِي الدَّهرِ حِينَا

ان کا جو زندگی میں ایک ساعت آپؐ کا کلام سن چکے

وَ ٣٥٨ ذُوْفَضْلٍ وَ ٣٥٩ ذُوْعِزٍّ ٣٦٠ هَجُوْدٌ

صاحبِ فضل ، صاحبِ عزّت ، جاگنے اور تہجد ادا کرنے والے

وَ ٣٦١ عَبْدُ اللهِ رَبِّ الْعَابِدِيْنَا

بندے اُس خدا کے جو کُل عبادت گزاروں کا پروردگار ہے

٣٦٢ مَجِيْدٌ ٣٦٣ نِعْمَةُ اللهِ وَ ٣٦٤ غَيْثٌ

بلند مرتبہ والے ، اللہ کی نعمت ، بارانِ رحمت

وَ ٣٦٥ أُمِّيٌّ ٣٦٦ غِيَاثُ الطَّالِبِيْنَا

اُمّی ، فریاد رَس ہیں (بہ شفاعت ودعا) طلب کنندگانِ حاجت کے

٣٦٧ خَلِيْلٌ ٣٦٨ قَاسِمٌ وَّ اللهُ يُعْطِيْ

مخلص دوستِ خدا ، تقسیم کرنے والے ، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں

وَ لَمْ يَلْفِظْ بِلَا لِلسَّائِلِيْنَا

اور لفظِ ''لا'' (نہیں) زبان پر نہیں لائے مانگنے والوں کے لیے

٣٦٩ حَفِيٌّ ٣٧٠ جَامِعٌ ٣٧١ مَّلِكٌ ٣٧٢ مَّلِيْكٌ

مہربان و معاون ، جمع کرنے والے ، شاہِ انبیاء ، سلطانِ رُسل

٣٧٣ نَذِيْرٌ ٣٧٤ مُّنْذِرٌ لِّلطَّائِغِيْنَا

بد انجام سے خبردار کرنے والے ، اور ڈرانے والے سرکشوں کو

٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨

نَصِيحٌ خَاضِعٌ لَسِنٌ حَبِيبٌ

خیرخواہ ، منکسر ، فصیح ، یارِ خدا و خلق

٣٧٩ ٣٨٠

مَحَجَّتُنَا وَ أَوْلَانَا يَقِينًا

ہماری حجت اور ہم انسانوں سے یقیناً افضل ہیں

٣٨١ ٣٨٢

وَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَّ مُشَفَّعٍ بَلْ

سب سے اول شفاعت کنندہ ، اول شفاعت قبول کیے ہوئے ، بلکہ

٣٨٣

هُوَ الْفَتَّاحُ بَابَ الشَّافِعِينَا

آپ کھولنے والے ہیں شفاعت کنندگان کے لیے شفاعت کا دروازہ

٣٨٤

سَبِيلُ اللهِ مَنْ سَلَكُوهُ فَازُوا

خدا کی راہ ، جو بھی اس راہ پر چلے کامیاب ہوئے

بِفِرْدَوْسٍ وَّ عَدْنٍ خَالِدِينَا

جنت فردوس و جنت و عدن حاصل کرنے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧

وَكِيلٌ صَالِحٌ مُّتَوَكِّلٌ فِي

دوسروں کے کام کرنے والے ، نیک ، اللہ پر توکل والے

أُمُورِ الدِّينِ تُكْلَانًا رَّصِينَا

امورِ دین میں محکم توکل

۳۸۸
وَ أَكْثَرُ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ جَمْعًا
اور جملہ انبیاءؑ میں آپؐ کی جماعت و امت زیادہ ہے

۳۸۹
وَ أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ أَكْتَعِينَا
اور شریف تر ہیں تمام اولادِ آدم میں

۳۹۰ ۳۹۱
رَقِيبٌ آخِذُ الْحُجُزَاتِ حِفْظًا
نگہبان ، پکڑنے والے امت کی کمر تا کہ بچائیں

مِنَ النَّارِ الَّتِي لِلْكَافِرِينَا
اُس آگ سے جو تیار ہوئی ہے کافروں کے لیے

۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴
وَسِيلَتُنَا نَسِيبٌ مُّسْتَعِيذٌ
آپؐ پر ایمان لانا وسیلۂ نجات ہے ، اعلیٰ نسب والے ، خدا کی پناہ لینے والے

۳۹۵
وَ نَجْمٌ ثَاقِبٌ لِّلْمُدْلِجِينَا
ستارۂ ضوفشاں رات کو چلنے والوں کے لیے

۳۹۶
وَ ثَانِي اثْنَيْنِ فِي غَارٍ بِثَوْرٍ
دو ساتھیوں میں دوسرے غارِ ثور میں

۳۹۷ ۳۹۸
تَقِيٌّ حَافِظٌ لِّلْمُحْجَرِينَا
متّقی ، محافظ ہیں مجبور و مظلوم لوگوں کے

مُحِيْدٌ ۳۹۹ حَائِدٌ ۴۰۰ قُثَمٌ ۴۰۱ وَّ وَافٍ ۴۰۲

بہ طرف حق پھیرنے والے ، باطل سے پھرنے والے ، جامع برکات ، وفادار

وَفِيٌّ ۴۰۳ وَّاعِظٌ ۴۰۴ مَّنْ يُّجْرِمُوْنَا

کامل صورت وسیرت والے ، وعظ کرنے والے انہیں جو گناہ کرتے ہیں

بَصِيْرٌ ۴۰۵ حَاتَمٌ ۴۰۶ حَامِيْمُ ۴۰۷ رَاضٍ ۴۰۸

دانش مند ، اعلیٰ صورت و سیرت والے ، حٰمٓ ، رضا مند

بَشِيْرٌ ۴۰۹ لِّلْكِرَامِ الْمُحْسِنِيْنَا

خوش خبری دینے والے نیکو کاروں کو

مُجِيْرٌ ۴۱۰ فَاتِحٌ ۴۱۱ عَافٍ ۴۱۲ نَّبِيْهٌ ۴۱۳

پناہ دہندہ ، فتح کرنے والے ، معاف کرنے والے ، بڑے ہوشیار

وَ كَانَ لِأَيِّ قُرْآنٍ مُّبِيْنَا ۴۱۴

اور تھے آیاتِ قرآن کی وضاحت کرنے والے

حَسِيْبٌ ۴۱۵ حَاشِرٌ ۴۱۶ قَسَمٌ ۴۱۷ طَهُوْرٌ ۴۱۸

کفایت کرنے والے ، سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے ، قسم ، پاک کنندہ

مُطَهَّرُنَا ۴۱۹ مُطَهِّرُ ۴۲۰ رَاغِبِيْنَا

ہم میں پاکیزہ تر ، پاک کرنے والے رغبتِ اسلام رکھنے والوں کو

٤٢١ تِهَامِيٌّ ٤٢٢ صَفِيُّ اللّٰهِ ٤٢٣ جَدٌّ

مکہ کے باشندے ، اللہ کے دوست ، عظیم القدر

٤٢٤ مُقَدَّسُهٗ وَ خَيْرُ مُقَدِّسِيْنَا

اللہ کے پاک کیے ہوئے اور سب سے زیادہ خدا کی پاکی بیان کرنے والے ہیں

وَ ٤٢٥ رُوْحٌ ٤٢٦ ذُوالْهِرَاوَةِ ٤٢٧ سَرْخَلِيْطَسُ

روحِ روانِ اسلام ، موٹی لاٹھی والے ، ستودہ (سریانی نام)

وَ ٤٢٨ زَاهِرُنَا وَ ٤٢٩ أَجْمَلُ زَاهِرِيْنَا

منوّر پیشانی والے ہمارے نبی اور تمام خوب روؤں سے زیادہ حسین

٤٣٠ سَنَايَا ٤٣١ ضَيْغَمٌ ٤٣٢ شَهِمٌ ٤٣٣ مُّشِيْرٌ

روشنی ، شیر دل ، سردار ، صحیح مشورہ دہندہ

وَ ٤٣٤ فَارُوْقٌ وَّ خَيْرُ الْفَارِقِيْنَا

بڑے امتیاز کرنے والے حق وباطل میں ، اور کُل امتیاز کرنے والوں سے بہتر

وَ ٤٣٥ فَرْدٌ ٤٣٦ رَاكِبٌ جَمَلًا ٤٣٧ سَرِيْعٌ

بینظیر ، اونٹ پر سوار ، اظہارِ حق میں تیز

وَ ٤٣٨ عَاضِدُنَا وَ ٤٣٩ ذُخْرُ الرَّاشِدِيْنَا

ہمارے مددگار ، ذخیرہ نیکوکاروں کے لئے

٤٤٠ خَلِيفَةُ رَبِّهٖ فِيْ نَشْرِ دِيْنٍ

اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں دین کی اشاعت میں

وَ نُصْرَتِهٖ وَ خَيْرُ النَّاشِرِيْنَا

و نصرت میں اور آپؐ بہترین اشاعت کنندہ ہیں

٤٤١ وَ جَوَّادٌ ٤٤٢ عِمَادٌ ٤٤٣ عُمْدَةٌ قَدْ

بڑے سخی ، سردار معتمد ، بھروسہ کیے ہوئے شجاع ، بے شک

أَقَامَ الدِّيْنَ أَرْكَانًا وَّ بُوْنَا

آپؐ نے قائم واُستوار کیے دین کے ارکان اور ستون

٤٤٤ حَبِيْبُ اللهِ ٤٤٥ بَاهٍ ٤٤٦ حَاطَحَاطَا[له]

اللہ کے محبوب ، خوبصورت ، حاط حاط (زبوری نام)

٤٤٧ بَهِيٌّ بَلْ ٤٤٨ بَهَاءُ الْأَجْمَلِيْنَا

حسین و دانا ، بلکہ تمام خوبصورتوں کا حُسن

٤٤٩ ثِمَالٌ لِّلْأَرَامِلِ وَ الْيَتَامٰى

فریاد رس ہیں بیوہ عورتوں اور یتیموں کے

وَ كَانَ لِعِصْمَةِ ٤٥٠ الْبَارِيْ مَصُوْنَا

اور تھے محفوظ بہ برکتِ حفاظتِ ربّ تعالیٰ

له: اسم عجمي سمي به في الزبور زيدت الألف في آخره للضرورة ١٢.

٤٥١ حَفِيظٌ ٤٥٢ وَّاسِعٌ خُلقًا وَّ عِلمًا

نگہبانِ (دین) ، وسیع اخلاق و علم والے

وَ مُغرَمٌ ٤٥٣ أَن نُّطِيعَ وَ أَن نَّدِيْنَا

اور بے حد مشتاق اس کے کہ ہم مطیع و دین دار بنیں

شَدِيدٌ ٤٥٤ خَيرُ ٤٥٥ خَلقِ اللهِ طُرًّا

امر دینی میں سخت ، سب مخلوقِ خدا سے افضل

وَ خَيرُ ٤٥٦ النَّاسِ خَيرُ ٤٥٧ العَالَمِينَا

کُل انسانوں سے اعلیٰ ، اور سارے عالَم سے بہتر ہیں

وَ أَطيَبُهُم ٤٥٨ بِغَيرِ الطِّيبِ طَبعًا

اور بغیر عِطر کے سب سے زیادہ معطّر بدن والے فطرةً

وَ أَليَنُهُم ٤٥٩ يَدَاهُ القَزُّ لِينَا

سب سے زیادہ نرم بدن والے ، گویا آپؐ کے ہاتھ ریشم ہیں نرمی میں

قَرِيبٌ ٤٦٠ ظَاهِرٌ ٤٦١ جِسمًا وَّ لٰكِن

آپؐ قریب و ظاہر ہیں جسمانی طور پر لیکن

عَظِيمٌ ٤٦٢ بَاطِنٌ ٤٦٣ عَنَّا شُئُونَا

بڑے اور پوشیدہ ہیں ہم سے باعتبارِ بلند شان

۴۶۴ كَثِيرُ الصَّمتِ ۴۶۵ وَهَّابُ الهَدَايَا

زیادہ خاموش رہنے والے ، بڑے ہدایا بخشنے والے

وَ مُنتَجَبٌ ۴۶۶ وَّ مُنتَخَبٌ ۴۶۷ يَقِينًا

برگزیدہ اور چُنے ہوئے ہیں یقینا

وَ رُوحُ ۴۶۸ الحَقِّ رُوحُ ۴۶۹ القُدُسِ مَولًى ۴۷۰

جانِ حق ، جانِ پاکیزہ ، آقا

وَ رُوحُ ۴۷۱ القِسطِ عِندَ المُقسِطِينَا

اور جانِ عدل انصاف کنندگان کے نزدیک

وَ سَعدُ ۴۷۲ اللهِ سَعدُ ۴۷۳ الخَلقِ فَخرٌ ۴۷۴

برکتِ اللہ تعالیٰ ، کُل مخلوق میں نیک بخت ، باعثِ فخر

سَعِيدُ ۴۷۵ الأَوَّلِينَ وَ الأٰخِرِينَا

سب اگلے اور پچھلے لوگوں میں بڑی سعادت والے

مُحَرِّضُنَا ۴۷۶ عَلٰى تَحصِيلِ عِلمٍ

ہمیں اُبھارنے اور ترغیب دینے والے طلبِ علم پر

بِأَقصَى المُلكِ بَل لَّو كَانَ صِينَا

دور دور ملکوں میں اگرچہ وہ چین ہی کیوں نہ ہو

۴۷۷ عَلِيمٌ ۴۷۸ عَالِمٌ ۴۷۹ بَحْرٌ ۴۸۰ مُلَبِّ

زیادہ علم والے ، جاننے والے ، بحر علم و کمال ، فرماں بردار

۴۸۱ زَعِيمُ الْأَنْبِيَاءِ الْغَابِرِينَا

تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے نمائندہ

۴۸۲ صَبِيحٌ ۴۸۳ ضَابِطٌ ۴۸۴ سَنَدٌ ۴۸۵ زَكِيٌّ

حسین ، تھامنے والے ، معتمد ، پاکیزہ

وَ ۴۸۶ شَكَّارٌ وَّ ۴۸۷ زَيْنُ الْكَائِنِينَا

زیادہ شکر کنندہ اور جملہ موجودات کی زینت

۴۸۸ مُعِينٌ ۴۸۹ مُخْلِصٌ ۴۹۰ مُتَضَرِّعٌ فِي

امداد کنندہ ، اخلاص والے ، عاجزی کرنے والے

عِبَادَةِ رَبِّهٖ يَبْكِي أَنِينَا

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زار و قطار روتے تھے

۴۹۱ مُؤَيَّدُهٗ وَ ۴۹۲ مَنْصُورٌ ۴۹۳ سَلَامٌ

خدا کی تائید حاصل کیے ہوئے ، مدد دیے ہوئے ، عیب ونقص سے پاک

وَ ۴۹۴ مُنْتَصِرٌ وَّ ۴۹۵ نَاصِرُ صَارِخِينَا

دین کے لئے بدلہ لینے والے ، اور مدد گار ہیں فریاد کرنے والوں کے

٤٩٦ مُبلِّغ ٤٩٧ حُكمِهٖ مُهدٍ ٤٩٨ عَزِیزٌ

حکم خدا پہنچانے والے ، روحانی تحفے دہندہ ، گرامی

٤٩٩ مُعَزَّزُنَا ٥٠٠ إِمَامُ العَالَمِینَا

ہمارے معزز نبی ، پیشوا سارے عالَم کے

وَ ٥٠١ مُغنٍ ٥٠٢ سَابِقُ عَرَبًا غَنِيٌّ ٥٠٣

مستغنی کرنے والے ، کُل عرب سے آگے ، غَنی ہیں

بِقَلبٍ أَینَ مِنهُ المُکثِرُونَا

دل کے ، یہ قلبی غنا دولت مندوں کو کہاں حاصل ہو سکتی ہے

وَ ٥٠٤ بَحرٌ زَاخِرٌ ٥٠٥ عَینٌ وَّ نَجمٌ ٥٠٦

اَسرارِ نبوت کے گہرے سمندر ، سردار اور ستارۂ رُشد

وَ ٥٠٧ بَرقِیطِسُ وَ ٥٠٨ حَامِي المُرمِلِینَا

ستائش کیے ہوئے (رومی نام) حمایت کرنے والے غریبوں کی

وَ ٥٠٩ شَثنٌ ٥١٠ نَاجِزٌ ٥١١ مُتَرَبِّصٌ فِي

معتدل موٹی انگلیوں والے ، وعدہ پورا کرنے والے ، مددِ خدا کے منتظر

أُمُورٍ نَالَهَا المُتَرَبِّصُونَا

اُن امور میں جن میں حوصلہ و انتظار والے ہی کامیاب ہوتے ہیں

إِمَامُ ٥١٢ الْخَيْرِ أَعْلَىٰ ٥١٣ مُجْتَبَانَا ٥١٤

ہر قسم کی نیکی میں رہ نما ، سب سے اعلیٰ ، برگزیدہ ہمارے نبیؐ

نَقِيبٌ ٥١٥ مُّنْتَقًى ٥١٦ فِي الْمُنْذِرِيْنَا

حقوقِ امت کے محافظ ، چُنے ہوئے پیغمبروں میں

وَ عَيْنُ ٥١٧ الْعِزِّ مَعْرُوْفٌ ٥١٨ عَفُوٌّ ٥١٩

عین عزت ، جانے پہچانے ہوئے ، بہت درگزر کرنے والے

لَنَا فَرَطٌ ٥٢٠ تَقَدَّمَ كَيْ يُعِيْنَا

حشر میں ہماری سہولت کا انتظام کرنے والے ، آگے گئے تا کہ مدد کر سکیں

وَ لَوْلَا سَيِّدِيْ مَا كَانَ كَوْنٌ

اگر میرے آقا دنیا میں نہ ہوتے تو یہ دنیا موجود نہ ہوتی

فَكَانَ وُجُوْدُهٗ مَاءً مَّعِيْنَا ٥٢١

سو آپؐ کا وجود کائنات کے لیے جاری پانی ہے

حَوٰى أَسْمَاءَهُ الْعُلْيَا نَشِيْدِيْ

جمع کیا آپؐ کے بلند اسماء کو میری خوبصورت نظم نے

كَمِسْكٍ فِي الْمَحَافِلِ طَابَ جُوْنَا

مانندِ مُشک محفلوں میں جو محفلوں کے ساتھ عطر دان کو بھی معطر کر دے

وَ زِنتُ بِهَا النَّشِيدَ فَجَدَّ سَعدِي
اور میں نے مزیّن کیا ان سے یہ قصیدہ ۔ زہے میری خوش بختی

كَدُرٍّ زَانَ أَصدَافًا مُّلِينَا
جیسا کہ موتی مزیّن کر دیں سیپیوں کو جو اُن سے پُر ہوں

شَفَاعَتُهُ العَرِيضَةُ عُدَّةٌ لِّي
آپؐ کی وسیع شفاعت میری زادِ راہ ہے

وَ مَأمُولِي وَ مَالِي مُستَبِينَا
اور امیدوں کا مرکز اور میرا مال واضح طور پر

أَ تَحرِمُنِي شَفَاعَتَهُ فَلَا ، لَا
کیا آپ مجھے اُن کی شفاعت سے محروم کریں گے نہیں ایسا نہ ہو

فَإِنِّي مُسلِمٌ رَبِّي يَمِينَا
کیونکہ میں مسلمان ہوں اے اللہ آپ کی قسم

نَعَم عَاصٍ وَّ لٰكِن لَيسَ جُرمِي
ہاں گناہ گار ہوں لیکن میرا جرم بڑا نہیں ہے

بِأَعظَمَ مِن خِوَانِكَ كَي تُهِينَا
آپ کے خوانِ کرم سے ، کہ آپ مجھے ضرور رسوا کریں

وَ جَلَّ الذَّنبُ لِيْ وَ أَجَلُّ مِنْ ذَا

میرے گناہ بڑے ہیں لیکن ان سے بھی بڑے ہیں

جَدَاكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُجْتَدِيْنَا

آپ کے عطایا ، اور آپ سب دینے والوں سے بہتر ہیں

فَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهٗ

پس ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم گنہ گار مستحق ہیں

لَهٗ إِنْ لَّا نَكُنْ مِّنْ خَاسِرِيْنَا

ورنہ پھر تو ہم خسارہ والوں میں سے ہونگے

بَلِ افْعَلْ رَبَّنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهٗ

بلکہ کرم کا وہ معاملہ فرما اے اللہ جس کے اہل آپ ہیں

لَهٗ وَ ارْحَمْ فَكُنْتَ بِهٖ قَمِيْنَا

اور رحم کر کیوں کہ آپ ہی رحم و کرم کے اہل ہیں

خَفِيَّ اللُّطْفِ أَدْرِكْنِيْ بِلُطْفٍ

اے مخفی مہربانی والے پالیجئے گا اپنی عنایات سے مجھے

وَ حِزْبًا يَّسْمَعُوْنَ وَ يَقْرَءُوْنَا

اور وہ گروہ بھی جو اس قصیدے کو سنے اور پڑھے

وَ صُحبَةَ مُصطَفَانَا أَرتَجِیھَا
اور نبی علیہ السلام کی رفاقت کا امیدوار ہوں

بِفِردَوسٍ لِأَخدِمَہُ قَطِینَا
جنت فردوس میں تاکہ خادم بن کر آپؐ کی خدمت کرتا رہوں

وَ رُؤیَتَكَ الَّتِي تُنسِي نَعِیمًا
اور امیدوار ہوں آپ کے دیدار کا بھی جو بھلا دے ہر نعمت کو

سِوَاھَا مَا تَسُرُّ النَّاظِرِینَا
اس کے سوا ، وہ دیدار جو ناظرین کو بڑی مسرت بخشتا ہے

وَ ھَب لِي الرَّوحَ وَ الرَّیحَانَ رَبِّي
اور مجھے عنایت کیجیے راحت اور پھول اے اللہ

بِجَنَّاتِ العُلٰى وَ الحُورَ عِینَا
جنتوں میں اور حورِ عین بھی

وَ أَنتَ الرَّبُّ فَارحَمنِي فَإِنِّي
آپ ہی میرے رب ہیں سو مجھ پر رحم فرما کیونکہ میں نے

دَعَوتُكَ مُستَغِیثًا مُّستَعِینَا
صرف آپ ہی کو پکارا ہے فریاد کرتے اور مدد مانگتے ہوئے

فَيَا اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا ثُبَاتًا

اے اللہ ہمیں خوب ثابت قدم رکھیے

عَلَى الْإِسْلَامِ حَتّٰى لَا نَخُونَا

دینِ اسلام پر ، تاکہ دین میں کسی طرح خیانت نہ کریں

وَ حَبِّبْ كُلَّ مَا تَرْضٰى إِلَيْنَا

اور محبوب کر دیں ہمارے دلوں میں ہر وہ شے جو آپ کو پسند ہو

وَ وَفِّقْنَا لِمَا يُجْدِي أَمِيْنَا

اور ہمیں توفیق بخش دیں اُس عمل کی جو نفع دے۔ آمین ثم آمین

تمت

All rights reserved

Jamia Imam Muhammad Musa Albazi
Raiwind, Lahore, Pakistan

Head Office: Alqalam Foundation
13-D, Block B, Samanabad,
Lahore 54000, Pakistan
Phone: +92-42-37568430 +92-300-4426440
Email: uzairbazi@hotmail.com alqalam777@gmail.com
www.alqalamfoundation.org

قصیدۂ حسنیٰ پڑھنے کے فوائد بیشمار ہیں۔ اسماءِ نبویہؐ کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔ چند اہم فوائد یہ ہیں۔

(۱) ہر قسم کی بیماری سے باذن اللہ شفاء (۲) مقدمات میں فتح (۳) دشمنوں کے شر سے حفاظت (۴) ملازمت میں ترقی (۵) افسرانِ بالا مسخر (۶) ماتحت عملہ تابع (۷) تجارت میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوکر بڑا نفع ہوگا (۸) میاں بیوی میں محبت ہوگی، بیوی پڑھے تو خاوند تابع ہوگا اور خاوند پڑھے تو بیوی فرمانبردار ہوگی (۹) سفر بخیر ختم ہوکر بخیر واپسی ہوگی (۱۰) طالب علم کا ذہن تیز و حافظہ بڑھے گا (۱۱) نیک اعمال کی توفیق ملے گی (۱۲) دلوں کی تسخیر کیلئے بہت مفید ہوگا (۱۳) غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی (۱۴) رزق میں فراخی اور جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چالو ہوگا (۱۵) جنات و سحر کا اثر دور ہوگا (۱۶) بے اولاد و عقیمہ عورت پڑھے تو اللہ تعالی اولاد نصیب فرمائیں گے (۱۷) گمشدہ چیز مل جائیگی (۱۸) گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آجائیگا (۱۹) جس کے بچے پیدا ہوکر مر جاتے ہیں تو وہ ان شاء اللہ زندہ رہیں گے (۲۰) امتحان میں کامیابی ہوگی (۲۱) دلوں کا وسوسہ اور خوف و بے اطمینانی دور ہو جائیگی (۲۲) استحضارِ قلب سے بار بار پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے اجازت
لینے سے ان شاء اللہ تعالی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔

عامل بننے کے بغیر بھی یہ فوائد حاصل ہونگے ان شاء اللہ تعالی۔ لیکن عامل بننے سے تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قصیدۂ حسنیٰ کے عامل بننے کے طریقے چار ہیں۔ عامل بن جانے کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھے۔
قصیدۂ حسنیٰ کے عامل بننے کے چار طریقے (اوّل) ۴۱ دن تک ہر روز ۳ دفعہ پڑھے (دوم) ۴۱ دن تک روزانہ ۷ دفعہ پڑھے (سوم) کسی ماہ (ربیع الاوّل ہو تو بہتر ہے) تین دن اعتکاف کرکے روزہ رکھے ایامِ اعتکاف میں روزانہ ۱۵ مرتبہ پڑھے (چہارم) اول ۱۲۵ مرتبہ درود شریف پڑھ کر قصیدہ شروع کرے پھر آخر میں بھی ۱۲۵ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ۴۱ دن تک روزانہ ایک مرتبہ اسی طریقہ سے پڑھے۔

پڑھنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ (مصنف) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت کی اولاد و اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔